



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi - 74000, Pakistan.

UAN: 111-001-122 Fax: 32410825

Website: www.psx.com.pk Email: info@psx.com.pk

Ref. No. PSX/ _____

Date: October 04, 2024

THE DIRECTOR

Corporate Supervision Department
Company law Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad

CHIEF LISTING OFFICER

Listing Department
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road, Karachi

Dear Concerns,

SUBJECT: NOTICE OF 77th ANNUAL GENERAL MEETING

Please find enclosed the notice of the 77th Annual General Meeting of Pakistan Stock Exchange Limited (the Exchange) to be held on October 28, 2024, at 4:00 p.m., at the Registered Office of the Exchange and through video-conferencing facility.

The above-referred notice will be advertised in all editions of Business Recorder and Nawa-i-Waqt on next working day, i.e. Monday, October 7, 2024.

Thanking you in anticipation,

Yours truly,

DR. FAKHARA RIZWAN
Company Secretary

Encl: As above



PAKISTAN
STOCK EXCHANGE
LIMITED



Ode to Service



Notice of Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the seventy-seventh (77th) Annual General Meeting (AGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX or the Company) will be held on Monday, October 28, 2024, at 4:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi and through video-conferencing facility, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, payment of Final Cash Dividend at Re. 1 per share, i.e. 10% for the financial year ended June 30, 2024.
3. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2025, till the conclusion of the next AGM and fix their remuneration. The Board of Directors, based on the recommendation of Audit Committee, has recommended the appointment of M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants (a member firm of the PWC network) as auditors of the Company, for the year ending June 30, 2025 till conclusion of the next AGM.

By Order of the Board of Directors
Dr. Fakhara Rizwan
Company Secretary

Karachi

Dated: October 04, 2024

Note:

1. *The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024 is accessible on below QR-enabled code:*



<https://www.psx.com.pk/psx/exchange/psx-shareholder-information#financial-reports>

2. *A member may submit a request at the registered office of the Company for certified copies of the minutes of previously held general meetings.*

NOTES

1. The Register of Members will remain closed from October 22, 2024, to October 28, 2024 (both days inclusive). The Members whose names appear on the Register of Members as on October 21, 2024, shall be entitled to attend and vote at the AGM.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the instrument of proxy and the power of attorney (POA) under which it is signed or a notarised certified copy of that POA at least 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. The form of proxy is annexed to this notice, and also available in the Annual Report and on the Company's website.

3. Any legal person which is a member of the Company may authorise any person to act as its representative at the meeting by providing a resolution of its board of directors, or a proxy duly signed by the authorized person. The person so authorised shall be entitled to exercise the powers of an individual member of the Company.
4. Since all shares issued to members are in a dematerialised format in their respective Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) accounts, the individual members desiring to attend the meeting in person, are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNICs) along with the Investor Account or Participant ID and House Account/Sub-Account numbers, for identification purposes. In the case of corporate members, the resolution of board of directors/POA with specimen signature of the nominee may preferably be provided to the Company well in advance or otherwise produced at the time of the meeting.

5. **Participation in AGM through Video-Conferencing Facility**

Pursuant to the clarification bearing reference no. SMD/SE/2(20)/2021/117 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) on December 15, 2021, the Company is facilitating the shareholders to attend the AGM via video-link, in addition to physical arrangements for the meeting. Therefore, the shareholders are encouraged to participate in the AGM through video-conferencing facility. Accordingly, they are requested to get themselves registered with the Company Secretariat by providing the requisite details at their earliest but not later than 5:00 p.m. on Friday, October 25, 2024.

The shareholders can register themselves via e-mail (shareholders.affairs@psx.com.pk), by providing the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC/Passport and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the board of directors/POA with a specimen signature of the nominee must also be provided.

| Name of Shareholder* | CNIC/NTN No./Passport No. | CDC Account No. | Cell No. | E-mail Address |
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------------|
|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------------|

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder or nominee of the shareholder.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the relevant video-link and the login credentials to their e-mail addresses, to enable the shareholders participate in the proceedings of the AGM through their smartphones or computer devices. The shareholders can also provide their comments or suggestions in connection with the agenda of the meeting by using the same email.

The above arrangement would also cover the requirement of Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 (the Companies Act), in relation to providing video-link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

6. **E-Dividend**

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, to be read with relevant provisions of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 (the Regulations), all listed companies are required to pay the dividend only by way of electronic mode, directly into the bank accounts of entitled shareholders designated by them. Accordingly, all shareholders of the Company who have not yet updated their bank account details (including IBAN) under their participant/CDC Investor Account Services which maintains their CDC account, are requested to update the same at the earliest but prior to the commencement of book closure. The Company would be constrained to withhold the amount of dividend, in accordance with the requirements of the Companies Act and for the circumstances stated under the Regulations.

7. **Tax Implication on Dividend**

The deduction of income tax from dividend payments shall be made in pursuance of the applicable provisions of Income Tax Ordinance, 2001. In case of joint shareholdings, the tax will be deducted as per shareholding proportions intimated by the shareholders to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, latest by the first day of book closure, otherwise the shareholding will be treated in equal proportion. In addition, the withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate or stay order from a competent court of law is made available to the Company's Share Registrar, by the first day of book closure.

Form of Proxy

77th Annual General Meeting

I/We, _____ of _____, holding Computerized National Identity Card (CNIC)/Passport No. _____ and being a member of Pakistan Stock Exchange Limited (the Company), hereby appoint _____ of _____, holding CNIC/Passport No. _____, or failing him/her hereby appoint _____ of _____, holding CNIC/Passport No. _____, as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 77th Annual General Meeting of the Company, to be held on the 28th day of October 2024 and at any adjournment thereof.

As witness my/our hand/seal this _____ day of _____, 2024.

Witnesses:

1. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC/Passport No. _____
2. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC/Passport No. _____

CDC Account No.

Revenue Stamp of
PKR 5/-

To be signed by the above named shareholder

Notes:

1. This Proxy Form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the time of the meeting. A proxy need not be a member of the Company.
2. The Proxy Form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of CNIC of the appointer and the proxy-holder shall be furnished with the Proxy Form.
4. The proxy-holder shall produce his/her original CNIC at the time of the meeting.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

پراکسی فارم

77 واں سالانہ اجلاس عام

میں / ہم _____ ساکن _____ حامل کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ نمبر _____ اور بطور رکن پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (کمپنی) _____ حامل CNIC / پاسپورٹ نمبر _____ یا اس کی عدم موجودگی میں _____ حامل CNIC / پاسپورٹ نمبر _____ کو مورخہ 28 اکتوبر 2024 کو کمپنی کے منعقد ہونے والے 77 ویں سالانہ اجلاس عام اور اس کے کسی ملتوی شدہ اجلاس کے لیے میری / ہماری جانب سے ووٹ ڈالنے کے لیے بطور نمائندہ (پراکسی) تقرر کرتا ہوں / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

گواہان کی موجودگی میں میرے / ہمارے دستخط / امہر بروز _____ 2024 کو ثبت کیے گئے / کی گئی۔

گواہان:

- 1- دستخط _____
نام _____
پتہ _____
CNIC / پاسپورٹ نمبر _____
- 2- دستخط _____
نام _____
پتہ _____
CNIC / پاسپورٹ نمبر _____

سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

پانچ روپے کارپوریشن اسٹمپ

حصص یافتہ کے دستخط

نوٹس:

- 1- یہ پراکسی فارم مکمل اور دستخط شدہ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کا ممبر ہونا لازمی نہیں۔
- 2- پراکسی فارم پر دو گواہان کے نام، پتے اور سی ڈی سی نمبر درج ہونے چاہیے۔
- 3- پراکسی فارم کے ساتھ تقرر کرنے والے اور پراکسی کے حامل فرد کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول جمع کی جائیں گی۔
- 4- پراکسی کا حامل شخص اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ پیش کرے گا۔
- 5- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظور شدہ قرارداد / باور آف اٹرنی بشمول نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع ہونگی۔



PAKISTAN
STOCK EXCHANGE

UAN +9221-111-001-122 | www.psx.com.pk | info@psx.com.pk

TO BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF BUSINESS RECORDER ON MONDAY, OCTOBER 07, 2024



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi-74000, Pakistan
UAN: 111-001-122, Website: www.psx.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the seventy-seventh (77th) Annual General Meeting (AGM) of Pakistan Stock Exchange Limited (PSX or the Company) will be held on Monday, October 28, 2024, at 4:00 p.m. at the Registered Office of the Company, Stock Exchange Building, Stock Exchange Road, Karachi and through video-conferencing facility, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2024, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To approve, as recommended by the Board of Directors, payment of Final Cash Dividend at Re.1 per share, i.e. 10% for the financial year ended June 30, 2024.
3. To appoint auditors of the Company for the year ending June 30, 2025, till the conclusion of the next AGM and fix their remuneration. The Board of Directors, based on the recommendation of Audit Committee, has recommended the appointment of M/s. A.F. Ferguson & Co., Chartered Accountants (a member firm of the PWC network), as auditors of the Company, for the year ending June 30, 2025 till conclusion of the next AGM.

By Order of the Board of Directors

Karachi
Dated: October 04, 2024

Dr. Fakhara Rizwan
Company Secretary

Note:

1. The Annual Report containing the Annual Audited Financial Statements for the year ended June 30, 2024 is accessible on below QR-enabled code:



<https://www.psx.com.pk/psx/exchange/psx-shareholder-information#financial-reports>

2. A member may submit a request at the registered office of the Company for certified copies of the minutes of previously held general meetings.

NOTES

1. The Register of Members will remain closed from October 22, 2024, to October 28, 2024 (both days inclusive). The Members whose names appear on the Register of Members as on October 21, 2024, shall be entitled to attend and vote at the AGM.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting shall also be entitled to appoint any person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her. A proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the meeting as are available to the respective member. The Company must receive the instrument of proxy and the power of attorney (POA) under which it is signed or a notarised certified copy of that POA at least 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company. The form of proxy has been disseminated to the shareholders and also available in the Annual Report and on the Company's website.
3. Any legal person which is a member of the Company may authorise any person to act as its representative at the meeting by providing a resolution of its board of directors, or a proxy duly signed by the authorized person. The person so authorised shall be entitled to exercise the powers of an individual member of the Company.
4. Since all shares issued to members are in a dematerialised format in their respective Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) accounts, the individual members desiring to attend the meeting in person, are requested to bring their original Computerized National Identity Cards (CNICs) along with the Investor Account or Participant ID and House Account/Sub-Account numbers, for identification purposes. In the case of corporate members, the resolution of board of directors/POA with specimen signature of the nominee may preferably be provided to the Company well in advance or otherwise produced at the time of the meeting.
5. **Participation in AGM through Video-Conferencing Facility**

Pursuant to the clarification bearing reference no. SMD/SE/2(20)/2021/117 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) on December 15, 2021, the Company is facilitating the shareholders to attend the AGM via video-link, in addition to physical arrangements for the meeting. Therefore, the shareholders are encouraged to participate in the AGM through video-conferencing facility. Accordingly, they are requested to get themselves registered with the Company Secretariat by providing the requisite details at their earliest but not later than 5:00 p.m. on Friday, October 25, 2024.

The shareholders can register themselves via e-mail (shareholders_affairs@psx.com.pk), by providing the following particulars, along with the scanned copy of their CNIC/Passport and that of their proxies, if so appointed. Moreover, in case of a corporate member, the scanned copy of the resolution of the board of directors / POA with a specimen signature of the nominee must also be provided.

| Name of Shareholder* | CNIC/Passport/NTN No. | CDC Account No. | Cell No. | E-mail Address |
|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|
|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------------|

* Where applicable, please also give the above particulars of the proxy-holder or nominee of the shareholder.

Upon receipt of the above information from the interested shareholders, the Company will send the relevant video-link and the login credentials to their e-mail addresses, to enable the shareholders participate in the proceedings of the AGM through their smartphones or computer devices. The shareholders can also provide their comments or suggestions in connection with the agenda of the meeting by using the same email.

The above arrangement would also cover the requirement of Section 134(1)(b) of the Companies Act, 2017 (the Companies Act), in relation to providing video-link facility to the members holding 10% or more shareholding (in aggregate) in the Company, residing at a geographical location.

6. E-Dividend

Pursuant to Section 242 of the Companies Act, to be read with relevant provisions of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 (the Regulations), all listed companies are required to pay the dividend only by way of electronic mode, directly into the bank accounts of entitled shareholders designated by them. Accordingly, all shareholders of the Company who have not yet updated their bank account details (including IBAN) under their participant/CDC Investor Account Services which maintains their CDC account, are requested to update the same at the earliest but prior to the commencement of book closure. The Company would be constrained to withhold the amount of dividend in accordance with the requirements of the Companies Act and for the circumstances stated under the Regulations.

7. Tax Implication on Dividend

The deduction of income tax from dividend payments shall be made in pursuance of the applicable provisions of Income Tax Ordinance, 2001. In case of joint shareholdings, the tax will be deducted as per shareholding proportions intimated by the shareholders to the Company's Share Registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, latest by the first day of book closure, otherwise the shareholding will be treated in equal proportion. In addition, the withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate or stay order from a competent court of law is made available to the Company's Share Registrar, by the first day of book closure.

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی۔ 74000 پاکستان
فون: 111-001-122 اور 011-122-122



اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX/کنٹینی) کا سترہواں (77 واں) سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعہ 28 اکتوبر 2024ء کی شام 4:00 بجے کنٹینی کے رجسٹرڈ آفس بمقام اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ، اسٹاک ایکسچینج روڈ، کراچی اور بڑے پورے پورے ملک میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا:

عمومی امور:

- 30 جون 2024 کو ختم شدہ مالیاتی سال کیلئے کنٹینی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں بشمول ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹرز پرپوزس کی وصولی، خورد خرچ اور منظوری۔
- بورڈ آف ڈائریکٹرز کی صلاحیت، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے فی حصص 1 روپیہ یعنی 10 فیصد اضافہ کی اداگلی کی منظوری۔
- 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے ختم ہونے پر اجلاس عام کے اختتام تک کنٹینی کے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کے مندرجہ ذیل امور کی منظوری: بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارش کی بنیاد پر کنٹینی کے آڈٹ کے طور پر میسرز اے۔ ایف۔ فرگوسن اینڈ کو، پارٹنرز اکاؤنٹنٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی تقرری کی منظوری کی ہے، جو کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اگلے سالانہ اجلاس عام کے اختتام تک رہے گی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
ڈاکٹر فاخرہ رضوان
کمپنی سیکرٹری

کراچی
تاریخ: 04 اکتوبر 2024ء

نوٹ:

- 1- سالانہ رپورٹ، 30 جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے مندرجہ ذیل QR کوڈ کے ذریعے قابل رسائی ہیں:



<https://www.psx.com.pk/psx/exchange/psx-shareholder-information#financial-reports>

- 2- کنٹینی کے ممبران رجسٹرڈ آفس سے بذریعہ درخواست گزشتہ منعقدہ اجلاس عام کی کارروائی کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔

نوٹس:

- 1- ممبران کا رجسٹرڈ آفس 22 اکتوبر 2024ء سے 28 اکتوبر 2024ء (بشمول دنوں ایم) بند رہے گا۔ دو ممبران جن کے نام 21 اکتوبر 2024ء کے رجسٹرڈ درج ہوں گے، سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرنے اور رائے دی اختیار کرنے کے قابل ہوں گے۔
- 2- اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے والا اہل ممبر اپنی جگہ شرکت، ووٹ ڈالنے اور رائے دی اختیار کرنے کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پراسی مقرر کرنے کا اہل ہے اور منتخب کئے جانے والے پراسی کو اجلاس میں شرکت، ووٹ اور رائے دی اختیار کرنے کے سلسلے میں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ پراسی نامزد کرنے والے ممبر کو حاصل ہیں۔ پراسی کی تقرری کے دستاویزات اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اٹارنی جس کی قیادت سے دستخط کیا گیا ہو یا کسی پاور آف اٹارنی کی فوری پبلک سے تصدیق شدہ کاپی اجلاس بلڈنگ کے انعقاد سے کم از کم 15 دن قبل (48) گھنٹے قبل کنٹینی کو وصول ہونا چاہیے۔ پراسی فار ممبرز ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے اور سالانہ رپورٹ کنٹینی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے۔ پراسی ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔
- 3- کوئی بھی اہل ممبر جن کو کنٹینی کا ممبر ہے، اپنے خلیفہ ممبر کو بھیج دینا چاہیے یا اپنے ڈائریکٹرز کی قرارداد اپنے کسی بھی حکام یا کسی دوسرے فرد کو اجلاس میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے اختیار دے سکتا ہے اور خلیفہ ممبر کو بھیج دینا چاہیے یا اپنے ڈائریکٹرز کی قرارداد اپنے کسی بھی حکام یا کسی دوسرے فرد کو اجلاس میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے اختیار دے سکتا ہے۔
- 4- چونکہ ممبران کو جاری کردہ تمام حصص ان کے مختلف سینڈل ڈپازٹری کنٹینی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) اکاؤنٹس میں ڈی ممبریلٹ ڈیپازٹس میں ہیں، لہذا انفرادی ممبران جو ذاتی طور پر اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) بشمول سرمایہ کار اکاؤنٹ یا شریک کار ID یا پاس اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر شناخت کے مقصد کیلئے ہمراہ لائیں۔ تاہم رپورٹ ممبر کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے میں نامزد شخص کی تصویر اور کنٹینی فار ممبرز ہولڈرز کے دستخط کیلئے جائیں۔

5- وی بی پی اے کی ہدایت کے ذریعے AGM میں شرکت

سٹیبل رائزڈ ایکسچینج لمیٹڈ (SECP) کی جانب سے جاری کردہ وضاحت بحوالہ نمبر SMD/SE/2(20)/2021/117 تاریخ 15 ستمبر 2021ء کے تحت، کنٹینی اجلاس میں شرکت کے انتظامات کے علاوہ حصص یافتگان کو وی بی پی اے کے ذریعے AGM میں شرکت کی ہدایت فرام کر رہی ہے۔ لہذا حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ وی بی پی اے کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کریں۔ اسے اس وقت سے، ان سے استدعا ہے کہ وہ جلد از جلد نامہ بردہ ہو، مورخہ 25 اکتوبر 2024ء کو شام 5:00 بجے تک کنٹینی سیکرٹریٹ میں خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔

حصص یافتگان اپنی رجسٹریشن بذریعہ ای میل (shareholders.affairs@psx.com.pk) اور ذیل کوآڈٹ بشمول شناختی کارڈ/پاسپورٹ اور پراسی ہوتے ہوئے پراسی کی اسکرین شدہ کاپی فرام کریں۔ ممبر برائے ہولڈرز کو وی بی پی اے کے ذریعے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/POA کی اسکرین شدہ کاپی اور نامہ بردہ کے دستخط کی کاپی فراہم کرنا ضروری ہوگا۔

| ممبر برائے ہولڈرز کا نام* | NTN/CNIC نمبر | سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر | موبائل نمبر | ای میل ایڈریس |
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
|---------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|

* پراسی ہولڈرز یا میمبرز کے نامزد ہونے والے ممبروں کی معلومات (جہاں قابل اطلاق ہو)

دیکھیے کہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ حصص یافتگان ممبروں کو ہولڈرز کے معلومات کی وصولی کے بعد کنٹینی ممبروں کو وی بی پی اے اور لاگ ان معلومات ان کے ای میل ایڈریس پر فراہم کرے گی۔ تاہم حصص یافتگان اس وقت تک رجسٹرڈ نہ ہوں گے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں گے۔

ممبروں کو وی بی پی اے کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ حصص یافتگان ممبروں کو ہولڈرز کے معلومات کی وصولی کے بعد کنٹینی ممبروں کو وی بی پی اے اور لاگ ان معلومات ان کے ای میل ایڈریس پر فراہم کرے گی۔ تاہم حصص یافتگان اس وقت تک رجسٹرڈ نہ ہوں گے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں گے۔

ممبروں کو وی بی پی اے کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ حصص یافتگان ممبروں کو ہولڈرز کے معلومات کی وصولی کے بعد کنٹینی ممبروں کو وی بی پی اے اور لاگ ان معلومات ان کے ای میل ایڈریس پر فراہم کرے گی۔ تاہم حصص یافتگان اس وقت تک رجسٹرڈ نہ ہوں گے کہ وہ رجسٹرڈ ہوں گے۔

6- ای ڈی ڈی نوٹس:

کنٹینی ایکٹ کی دفعہ 242 جس کو کنٹینی (ڈسٹری بیوشن آف ڈی ڈی نوٹس) ریگولیشنز 2017ء (ریگولیشنز) کی مختلف شقوں کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق تمام ایسڈ کنٹینی ڈی ڈی نوٹس ادا کی جائیں صرف ایک بار۔ تاہم سالانہ اجلاس عام میں اہل حصص یافتگان کے جانب سے نامزد کردہ وی بی پی اے کاؤنٹ میں براہ راست جمع کرانے کی پابندی نہیں ہے۔ لہذا کنٹینی کے تمام حصص یافتگان جنہوں نے ابھی تک اپنے شرکت ڈاکیومنٹ کی ای ڈی ڈی نوٹس کو رجسٹرڈ نہیں کیا ہے، وی بی پی اے کاؤنٹ کی تفصیلات (بشمول IBAN) آپ ڈی ڈی نوٹس میں فراہم کرنا چاہیے، جو ان کے ای ڈی ڈی نوٹس کو منسلک ہے۔ ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد نامہ بردہ کے ساتھ اپنی ای ڈی ڈی نوٹس میں فراہم کریں، جہاں کہہ کر وہ خود نامزد ہوں گے اور ای ڈی ڈی نوٹس کے مطابق، کنٹینی ڈی ڈی نوٹس کی اداگلی روکنے پر مجبور ہوگی۔

7- ڈی ڈی نوٹس کا اطلاق

ڈی ڈی نوٹس کی اداگلیوں سے اہل حصص یافتگان کے نام لگنے کی کوئی گرانٹ آرڈیننس، 2001ء کے قابل اطلاق دفعات کے مطابق کی جائے گی۔ ممبرز کو رجسٹرڈ ہولڈرز کی صورت میں، کنٹینی کے رجسٹرڈ ممبرز FAMCO رجسٹریشن سرورسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو کتب بندش سے ایک دن قبل حصص یافتگان کی جانب سے مطلع کردہ رجسٹرڈ ہولڈرز کے حساب کے مطابق گیس کوٹنی کی جانے گی، البتہ رجسٹرڈ ہولڈرز کا حساب مساوی طور پر کیا جائے گا۔ ممبر برائے ہولڈرز کی ای ڈی ڈی نوٹس سے رجسٹرڈ ہولڈرز گیس کی چھوٹ کی اجازت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب گیس سے دستیابی کے تحت اس کے دسترس سرٹیفکیٹ کی کاپی یا کسی مجاز عدالت سے حکم انتظامی کی کاپی کنٹینی کے رجسٹرڈ ممبرز کو کتب بندش سے ایک دن قبل دستیاب ہو۔